

CANDIDATE
NAME

CENTRE
NUMBER

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

CANDIDATE
NUMBER

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



SECOND LANGUAGE URDU

3248/02

Paper 2 Language Usage, Summary and Comprehension

May/June 2019

1 hour 45 minutes

Candidates answer on the Question Paper.

No Additional Materials are required.

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your centre number, candidate number and name in the spaces provided.

Write in dark blue or black pen.

Write your answers in **Urdu** in the spaces provided on the Question Paper.

Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.

DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer **all** questions.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

مدرج ذیل مداریات خورے پڑھئے

اپنानام، کینٹڈیٹ نمبر اور سینٹر کا نمبر پرچے میں دی گئی جگہ پر لکھئے۔

صرف گھرے نیلے یا کالے رنگ کا قلم استعمال کیجیے۔

اپنے تمام جوابات اسی پرچے پر سوالوں کے نیچے اردو میں لکھیے۔

سٹیپلز، پیپر کلپس گوند اور ٹپ ایکس کا استعمال منع ہے۔

بار کوڑ پر کچھ نہ لکھیے۔

تمام سوالات کے جواب لکھیے۔

اس پرچے میں دیے گئے تمام سوالوں کے مارکس بریکٹ میں دیے گئے ہیں۔ []

This document consists of 10 printed pages and 2 blank pages.

BLANK PAGE

PART 1: Language usage (5 marks)**Vocabulary**

نیچے دیے گئے محاوروں سے اردو میں مکمل جملے بنائیں، اس طرح کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔

[1] _____

1 آنچنے آنا :

[1] _____

2 آنکھیں دکھانا:

[1] _____

3 شیشے میں اٹارنا :

[1] _____

4 پگڑی اچھالنا:

[1] _____

5 بے پر کی اڑانا :

Sentence transformation (5 marks)

دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ متضاد الفاظ لکھ کر جملے بنائیں۔

مثال: کچھ پودوں کو دھوپ میں رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے۔

کچھ پودوں کو چھاؤں میں رکھنا مفید ہوتا ہے۔

منقی سوچ رکھنے والے اکثر نجیدہ رہتے ہیں۔ 6

[1]

مجھے ٹنک ہے کہ یہ شہد قدرتی نہیں ہے۔ 7

[1]

برآمدات میں اضافہ ہو تو ملکی معیشت ترقی کرتی ہے۔ 8

[1]

اس نے دوست کا مشورہ قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ 9

[1]

بہار کے موسم میں باغ بہت پُر رونق نظر آتا ہے۔ 10

[1]

Cloze passage (5 marks)

خالی جگہوں کو پُر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں۔
سوال نمبر 11 سے 15 تک ہر خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ چُن کر نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔

شہر میں گداگروں کی روز بڑھتی ہوئی تعداد یقیناً [11] کا باعث ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گلیوں اور بازاروں میں ان کا ایک [12] سا پھیلا ہوا ہے، جس میں ہر عمر کی خواتین اور معصوم بچے بھی بڑی [13] میں شامل ہیں۔ پیشہ ور گداگروں کو بھیک دے کر ہم بھی اس برائی کے [14] کا باعث بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تہذیب کا تقاضہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے اور [15] سے بچا جائے۔

| | | |
|------------|---------|-----------|
| بے کار۔ | خوشی۔ | بد کلامی۔ |
| خوش کلامی۔ | پریشان۔ | |

[1] _____ 11

[1] _____ 12

[1] _____ 13

[1] _____ 14

[1] _____ 15

PART 2: Summary (10 marks)

مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنے کے بعد دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

قدیم کہاوت ہے کہ 'سفر و سیلہ ظفر' ہے، یعنی سفر کرنا انسان کی کامیابی کا ذریعہ بتا ہے۔ دیکھا جائے تو سیر و سیاحت سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ عملی زندگی میں کتابی علم کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم اور سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اسے نئی جگہوں کو دیکھنے اور نئے نئے لوگوں سے ملنے اور تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے، جس سے انسان کا تجربہ اور مشاہدہ و سیع ہوتا ہے اور اسکی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ خالصتاً سیر و تفریح کی غرض سے سفر عموماً تقطیلات کے دوران کیا جاتا ہے، تاکہ گھوم پھر کرنا صرف نئی نئی جگہیں دیکھی جائیں بلکہ روزمرہ کی مصروفیات سے دور سکون کا کچھ وقت گزار کر تازہ دم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ تعلیم یا کام کے سلسلے میں اگر بیرونِ ملک جانے کا موقع ملے تو اس دوران بھی سیر و سیاحت کا وقت مل جاتا ہے۔ سفر خواہ ضرور تأکید کیا جائے یا شوقیہ، دونوں صورتوں میں ہی بہترین معلوم ثابت ہو سکتا ہے۔

اپنے وطن سے دوری انسان کو کئی مسائل سے بھی دوچار کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اول تو گھر سے دور جانا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کسی وجہ سے جانانپڑ بھی جائے تو خاندان اور مانوس ماحول کی غیر موجودگی کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور واپسی کے لئے دن گنتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ایسے افراد کی تعداد کم ہوتی ہے، مگر وہ اپنی نادانی سے ناصرف اپنی سیاحت کا مزہ کر کر اکرتے ہیں، بلکہ اپنے افراد خانہ کو بھی مسلسل پریشان رکھتے ہیں۔ اسکے علاوہ دیارِ غیر میں مالی مسائل یا کوئی غیر متوقع صورت حال پیش آنے کا ذر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے سے ہی انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی ہیں اور اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔

آج کل جہاں زندگی کے ہر شعبے میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، وہیں سیر و سیاحت کا شعبہ بھی بہت ترقی کر گیا ہے۔ آپ کے سفر کا مقصد کچھ بھی ہو، آپ روانگی سے پہلے اپنا مکمل پروگرام، آمد و رفت اور رہائش کے معاملات وغیرہ طے کر سکتے ہیں۔ اس طرح وقت بھی بچتا ہے اور پریشانی کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے اپنے وطن میں اپنے عزیز واقارب اور کام کا ج کے بارے میں ہر وقت رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں رابطوں اور تعاون کی اہمیت کو ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مختلف ادارے اپنے ملازمین کو بیرونی ممالک میں بھیجنے ہیں تاکہ وہ واپس آ کر اپنے تجربات اور مشاہدات کو اپنے اداروں کی ترقی اور بہبود کے لیے استعمال کر سکیں۔ اسی طرح حکومتی سطح پر مختلف ممالک کے درمیان طباء اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے سیاحتی و فود کے تبادلے بھی کیے جاتے ہیں، تاکہ دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے کی تہذیب اور معاشرت سے آگاہی حاصل ہو سکے۔

16 دیگئی عبارت کو پڑھ کر اشاروں کی مدد سے تقریباً 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔

- | | |
|---------------------------|-----|
| شخصیت پر اثرات | (a) |
| مقاصد | (b) |
| مشکلات | (c) |
| جدید سہولیات | (d) |
| سپا حتیٰ پرور گرام | (e) |

[10]

PART 3: Comprehension (30 marks)

Passage A

درج ذیل عبارت کو پڑھیے پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

ایسٹر آئی لینڈ جنوبی بحر الکاہل کے قلب میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، جو دنیا میں سب سے دور دراز آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں سے نزدیک ترین آباد علاقہ دو ہزار کلو میٹر سے زیادہ کی دوری پر ہے۔ جزیرے کی سب سے نمایاں چیز اس پر موجود 900 کے قریب دیو ہیکل محسوس ہے جو جزیرے پر جامجاد کھائی دیتے ہیں۔

مقامی باشندے اس جزیرے کو ار اپانوئی کے نام سے جانتے ہیں۔ 1722 عیسوی میں ہالینڈ کے ایک بحری جہاز نے ایسٹر سندھے کے دن اس جزیرے کو دریافت کیا۔ شواہد سے پتا چلتا ہے کہ یہاں آبادی کا آغاز آٹھویں سے گیارہویں صدی عیسوی کے درمیان ہوا تھا اور سولہویں صدی تک اس کی آبادی 15000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ یہ اب تک معلوم نہیں ہوا کہ آتش فشاں پھٹنے اور لاوے کی تہہ در تھے چٹانوں سے بنے والی اس سر زمین کے ابتدائی باشندے کن حالات میں یہاں پہنچے۔ بہتے ہوئے لاوے اور سمندر کی تندو تیز لہروں کے ملنے سے یہاں سینکڑوں غار وجود میں آئے، جن کی طویل راہداریاں آتش فشاں چٹانوں کی تہہ تک چلی جاتی ہیں۔

جزیرے کے ابتدائی آباد کاروں کو یہ جزیرہ سر سبز اور پام کے درختوں سے بھرا ہوا ملا۔ انہوں نے ان درختوں کی لکڑی کو اپنے گھر اور کشتیاں بنانے میں استعمال کیا۔ انہوں نے کاشت کاری بھی شروع کی اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ قبیلوں کی شکل میں جزیرے کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے۔ البتہ ایک چیزان تمام قبائل میں مشترک تھی، یعنی دیو ہیکل محسوسوں کی تعمیر اور ان سے منسلک رسوم۔ یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ لوگ اس بڑے پیانے پر محسوسوں کو تراشنے کے جنون میں کیوں متلا ہوئے، لیکن یہی جنون آخر کار اس تہذیب کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ یہ محسوسے جمے ہوئے لاوے کو تراش کر نہیات فنا رانہ مہارت سے بنائے گئے ہیں۔ چٹانوں میں افتنی حالت میں ان کو تراشنے کے بعد انہیں زمین سے الگ کر کے کھڑا کرتے اور پھر بڑے بڑے رسوں اور درختوں کے تنوں کی مدد سے میلوں دور سمندر کے کنارے بنائے گئے مخصوص پلیٹ فارموں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ مختلف قبیلوں کے درمیان زیادہ بہتر اور بڑے محسوسے بنانے کی اندھا دھن دوڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ درخت بے دردی سے کاٹے جاتے رہے اور آخر جنگلات کے خاتمے سے جزیرے پر نرم مٹی کی پرت آسانی سے سمندر کی نذر ہو گئی، اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بستیوں اور فصلوں کی تباہی کے بعد جزیرہ چھوڑ کر جانے کے لیے کشتیوں کی ضرورت تھی، مگر اتنی لکڑی موجود نہ تھی۔ وسائل کی قلت اور آپس کی لڑائیوں نے لوگوں کو حشی اور آدم خور بنادیا۔ ایسٹر آئی لینڈ سے ملنے والی لکڑی کی تختیوں پر کندہ تحریر ا رو گور و گوا سے اس تہذیب کے مزید گوشے بے نقاب ہو سکتے تھے، مگر جزیرے کی دریافت کے بعد مہذب دنیا سے یہاں آنے والوں کے ہاتھوں مزید تباہی عمل میں آئی اور یہ تختیاں اتنی کم تعداد میں بچی ہیں کہ ماہرین ان کو پڑھنے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے۔

اب نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

ایسٹر آئی لینڈ کہاں واقع ہے؟ اس کی نمایاں علاقائی خصوصیت کیا ہے؟ 17

[2]

ubarat کے مطابق جزیرے کے قدیم باشندے کب اور کیوں یہاں آ کر آباد ہوئے؟ 18

[2]

جزیرے کی زمین اور غاروں کی ساخت کس وجہ سے منفرد ہے؟ دو باتیں لکھیں۔ 19

[2]

ایسٹر آئی لینڈ کے قدیم باشندوں کے طرزِ زندگی کے بارے میں دو باتیں لکھیں۔ 20

[2]

مجموعوں کو تراشنا کے بعد انہیں کیسے اور کہاں لے جایا جاتا تھا؟ 21

[2]

کون سے عوامل اس جزیرے کی قدیم تہذیب کے خاتمے کا باعث بنے؟ تین باتیں لکھیں۔ 22

[3]

جزیرے کی قدیم تہذیب کے متعلق مزید معلومات کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ ایسا کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ 23

[2]

Passage B

درج ذیل عبارت کو پڑھیے پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

نانگا پربت دنیا کی نویں اور پاکستان کی دوسری سب سے اوپری چوٹی ہے۔ اس کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ یہاں چوٹیوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں سب سے اوپری چوٹی کو اسمٹ پیک کہتے ہیں۔ عرف عام میں یہی چوٹی نانگا پربت کہلاتی ہے۔ اس کے ارد گرد پھریلی ڈھلان اتنی عمودی ہے کہ برف اس پر ٹھہر نے کے بجائے پھسل جاتی ہے اور چوٹی ہمیشہ بر فانی لباس کے بغیر دکھائی دیتی ہے اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ نانگا پربت اپنی وسعت، کھڑی چٹانوں اور ڈھلانوں کے سبب انتہائی پر شکودر دکھائی دیتا ہے۔

نانگا پربت کو اکل رہا تین یعنی قائل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے پہاڑوں کی نسبت اس پر چڑھنے میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اسے سب سے پہلے سر کرنے کا سہرا ایک جرمن کوہ پیاہر من بوہل کے سر بندھا جس نے 3 جولائی 1953 عیسوی میں کامیاب حاصل کی جبکہ 1895 عیسوی سے لے کر اس وقت تک 31 لوگ اسے سر کرنے کی کوشش میں مارے جا چکے تھے۔ ہر من بوہل اُس کامیاب ہم کا حصہ تھا جو 1934 عیسوی میں نانگا پربت سر کرنے کی کوشش میں ہلاک ہونے والے ایک جرمن کوہ پیاہر کے بھائی نے تشكیل دی تھی۔ ہر من بوہل نے اسے آسیجن کی مدد کے بغیر سر کیا اور آخری 1300 میٹر کا راستہ اپنی ٹیم کے واپس چلے جانے کے بعد تنہا طے کیا۔ 1978 عیسوی میں رائین ہولڈ میس نے اسے مکمل طور پر تنہا سر کیا۔ نانگا پربت کو تین جرمن بھائیوں نے متعارف کروایا تھا اور بعد کے دنوں میں بہت سے جرمن کوہ پیاہر اس کے ساتھ متعلق رہے، اس لیے اسے 'جرمن پہاڑ' بھی کہتے ہیں۔ نانگا پربت پر کوہ پیاہر کی کامیابی کا تناسب صرف 28 فیصد ہے۔ اس سے کم تناسب صرف انالپورنا کا ہے۔

اگر آپ بھی نانگا پربت کا نظارہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے فیری میڈوز سب سے خوبصورت اور موزوں جگہ ہے۔ اسلام آباد سے سیاح براستہ شاہراہ رائے کوٹ کے پل تک پہنچتے ہیں، جس کے بہت نیچے دریائے سندھ کا میلا لاپانی ایک گہری گونج کے ساتھ بہتا ہے۔ یہاں سے پیدل یا جیپ کے ذریعے تقریباً چالیس کلو میٹر کے فاصلے پر فیری میڈوز ہے۔ راستے میں خوبصورت جھیلیں بھی ہیں۔ پیدل جانے کی صورت میں سامان لادنے کے لیے خچر بھی دستیاب ہیں۔ فیری میڈوز میں رات گزارنے کے لیے خیمے اور کھانے کی سہولت بھی موجود ہے۔

فیری میڈوز کی خوبصورتی افسانوی شہرت رکھتی ہے۔ تاروں بھری رات میں بلندیوں سے اتر کر یہاں رقص کرنے والی پریوں کے قصے لوک داستانوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ مقامی آبادی کا مانا ہے کہ نانگا پربت کی چوٹی پریوں کی ملکہ کی رہائش گاہ ہے۔ داستانوں میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے بر فانی قلعے میں رہتی ہے جو شفاف اور دیز برف کا بنا ہوا ہے اور برف کے بڑے بڑے مینڈک اور برف کے ایسے سانپ جو کئی کلو میٹر لمبے ہیں اس ملکہ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والی عورتیں رنگین اور شوخ ملبوسات سے اجتناب کرتی ہیں اور انہیں ہیری رات میں باہر نہیں نکلتیں، کیونکہ ان کے خیال میں پریاں ان سے حسد کر سکتی ہیں اور ان پر جادو کر سکتی ہیں۔

اب نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہوا پنے الفاظ میں لکھیں۔

24 نانگاپربت کو یہ نام دینے کی کیا وجہ ہے؟ اسکے علاوہ یہ چونی کس نام سے مشہور ہے؟۔

[2]

25 نانگاپربت کو سر کرنا کیوں مشکل ہے؟ اسے سر کرنے کی پہلی کوشش کب ہوئی؟

[2]

26 نانگاپربت کو سب سے پہلے کس نے اور کن غیر معمولی حالات میں سر کیا؟

[3]

27 نانگاپربت کو جرمن پہاڑ کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ کوہ پیاؤں کی ناکامی کے لحاظ سے دنیا میں یہ کس نمبر پر ہے؟۔

[2]

28 شاہراہ ریشم سے فیری میڈوز جانے کے لیے کیا سہولیات میسر ہیں؟

[2]

29 لوک دستانوں کے مطابق فیری میڈوز سے پریوں کا کیا تعلق ہے؟

[2]

30 مقامی لوگوں کی زندگی پر لوک دستانوں کا کیا اثر ہے؟

[2]

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge Assessment International Education Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge Assessment International Education is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which itself is a department of the University of Cambridge.